


## خولی ٹیٹا-یا... یفا-نت-س شکستی بے ئودینیزی ہنا



لہ خولی ٹیٹا-یا یفا-نت-س بے سہ گے بے-رامبہر بے گے-ک لہ ئودینیزی برد-و، بےم ئنجام-ش یوقی  
خا-کانی بے 15 خا بے-رزکرد-و.

لہ یاریہ-کی دیک-ی ہمان ہفت-ش

رہما بے بردن-و لہ پارما چووہ پل-ی دووہم.

لہ یاریہ-کانی ہفت-ی نی-ی-می خولی ٹیٹا-یا، یا-نی ر-مای پایت-خت میوانداری پارمای کرد.

تایمی ی-ک-م، تا راد-ی-ک گورگ-کان باشر د-رک-وتن، لہ خول-کی 42 ما تیاس سولی گ-ی پ-شک-وتنی

یا-ن-ک-ی تمارکرد، بے-ام دوا ی گ-ن-و بے فار ر-تکرای-و، نیوی ی-ک-میش بے-گ-ی ک-تایہات.

لہ تایمی دووہم، تیپ-ک-ی گاسپ-ر-نی لہ ئاستی بے-رز برد-وامبوو، ئاستہ بے-رز-ک-شبان گ-ی ی-ک-م و

دووہمی لہ خول-ک-کانی 63 و 81 ل-ک-وت-و، گ-ک-کانیش ہ-رم-س و د-قبیک تماریا نکرد.

ہ-رچ-ندہ پارما د-ستی بے ہ-و-کانی کرد و لہ خول-کی 88 ئ-لیسا ندرہ ئنجام-ک-ی ک-مکرد-و بے-ام

س-رک-وتوو ن-بوون لہ ی-ک-سا نکردن-و.

س-ر-نجام یاریہ-ک- بے دوو گے بے-رامبہر بے گے-ک لہ سودی رہما ک-تایہات، بےم بردن-و گورگ-کان

بے ک-کردن-و 21 خا پل-ی دووہمی ریزب-ندیان گرتووہ.

